

17 اپریل 2018

برامپٹن کے 2018 میونسپل الیکشن کے لیے امیدواروں کی نامزدگیاں اور تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز کی رجسٹریشنز، 1 مئی سے شروع ہو رہی ہیں

برامپٹن، آن – 1 مئی 2018 کو، سٹی آف برامپٹن کا کلرک آفس 2018 میونسپل الیکشن کے لیے امیدواروں کی نامزدگیاں اور تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز کی رجسٹریشنز قبول کرنا شروع کر دے گا۔

امیدواروں کی نامزدگی کا دورانیہ 1 مئی 2018 کو شروع ہو گا اور 27 جولائی 2018 کو دن 2 بجے ختم ہو گا۔

تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز کے لیے رجسٹریشن کا عرصہ 1 مئی 2018 سے شروع ہو گا اور 19 اکتوبر 2018 کو ختم ہو گا۔

امیدواروں اور تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز کے لیے عمومی ہدایات کے بارے میں ایک پریزینٹیشن سٹی کی [ویب سائٹ](#) پر دستیاب ہے۔

امیدوار

سٹی درج ذیل دفاتر کے لیے نامزدگیاں قبول کرے گا:

- میئر
- ریجنل کونسلر
- سٹی کونسلر
- اسکول بورڈ ٹرسٹی برائے:
 - پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ
 - ڈفرن-پیل کیتھولک ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ
 - کونسل سکولینر کیتھولک مون ایونیر (Conseil scolaire catholique MonAvenir) سابقہ طور پر کونسل سکولینر ڈی ڈسٹرکٹ کیتھولک سنٹر - سڈ (Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud) کہا جاتا تھا

اسکول بورڈ ٹرسٹی، کونسل سکولینر ویامونڈے (Conseil scolaire Viamonde) کے عہدے کے لیے نامزدگیاں سٹی آف مسیساگا کی جانب سے 300 سٹی سنٹر ڈرائیو، مسیساگا میں عمومی اوقات کار میں قبول کی جائیں گی۔

2018 میں پہلی مرتبہ، ریجن آف پیل چیئر کا انتخاب جنرل ووٹ سے ہو گا۔ اس عہدے کے لیے نامزدگیاں ریجن آف پیل کی جانب سے، 10 پیل سنٹر ڈرائیو، برامپٹن میں عمومی اوقات کار میں قبول کی جائیں گی۔

نامزدگی کے فارم اور امیدواروں کے لیے معلوماتی پیکیج اب آن لائن دستیاب ہیں جبکہ طبع شدہ نقول جلد ہی برامپٹن سٹی ہال میں سٹی کلرک کے دفتر میں دستیاب ہوں گی۔ فارموں کو لازمی طور پر ذاتی طور پر (یا کسی ایجنٹ کے ذریعے) اوقات کار کے دوران، صبح 8:30 – شام 4:30 تک ایام کار میں مورخہ 1 مئی سے 27 جولائی 2018 کو دن 2 بجے تک بھرا جانا چاہیے۔

فارم جمع کراتے وقت، فیس (میئر کے لیے \$200.00، دیگر تمام عہدوں کے لیے \$100.00) نقد رقم کی صورت میں، بذریعہ ڈیبٹ کارڈ، تصدیق شدہ چیک یا منی آرڈر کے ذریعے ادا کی جا سکتی ہے۔ درخواست دہندگان کو اپنے نام اور قابل قبول پتہ کا ثبوت لازمی طور پر فراہم کرنا چاہیے۔ تمام اصلی دستاویزات قبول کی جائیں گی؛ فیکس یا دیگر الیکٹرانک نقول کی اجازت نہیں ہے۔ تمام ممکنہ امیدواروں کو الیکشن کے مقاصد کے لیے کسی قسم کی مہم جوئی کا چندہ وصول کرنے یا فنڈ استعمال کرنے سے پہلے اپنا نامینیشن پیپر اور انٹورسمنٹ آف نامینیشن فارم لازمی طور پر جمع کروانا ہو گا۔ اسکول بورڈ ٹرسٹی کے امیدواروں سے انٹورسمنٹ آف نامینیشن فارم جمع کروانے کا تقاضہ نہیں کیا جاتا۔

تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز

2018 کے میونسپل الیکشن میں ایک نئی چیز تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز ہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص، کارپوریشن یا ٹریڈ یونین، جو کسی امیدوار کو معاونت فراہم کرنے، حمایت کرنے یا مزاحمت کرنے کے لیے کسی براڈ کاسٹ، تحریری، الیکٹرانک یا دیگر ذریعے سے اشتہار بازی کرنا چاہے، تو ان سے سٹی کے ساتھ رجسٹر ہونا لازمی ہو گا۔

رجسٹریشن فارم اور معلوماتی پیکیج اب آن لائن دستیاب ہیں جبکہ طبع شدہ نقول جلد ہی برامپٹن سٹی ہال میں سٹی کلرک کے دفتر میں دستیاب ہوں گی۔ رجسٹریشن کو لازمی طور پر ذاتی طور پر (یا کسی ایجنٹ کے ذریعے) اوقات کار کے دوران، صبح 8:30 – شام 4:30 تک ایام کار میں مورخہ 1 مئی سے 19 اکتوبر 2018 تک بھرا جانا چاہیے۔ درخواست دہندگان کو لازمی طور پر اپنی شناخت فراہم کرنی ہو گی۔ تمام اصلی دستاویزات قبول کی جائیں گی؛ فیکس یا دیگر الیکٹرانکی نقول کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز کو الیکشن کے مقاصد کے لیے کسی قسم کی مہم جوئی کا چندہ وصول کرنے یا فنڈ استعمال کرنے سے پہلے اپنے رجسٹریشن کے کاغذات لازمی طور پر جمع کروانا ہوں گے۔

نامزد شدہ امیدواروں اور رجسٹر شدہ تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز کی فہرست کی باقاعدگی سے تجدید کی جائے گی اور یہ www.brampton.ca/BramptonVotes پر دستیاب ہے۔

اقتباس

"میونسپل الیکشنز ایکٹ میں حالیہ تبدیلیوں میں امیدواروں کے لیے نامزدگی کا نسبتاً مختصر عرصہ اور تیسرے فریق کی اشتہار بازی کے لیے قوانین کا اضافہ شامل ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ ممکنہ امیدوار اور تیسرے فریق کے ایڈورٹائزرز ان قوانین سے آشنا ہوں اور نیز یہ کہ ان سے الیکشن کی مہم کے دوران کیا توقع کی جاتی ہے۔"

پیٹر فے، سٹی کلرک اور ریٹرننگ آفیسر

مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/BramptonVotes پر الیکشن کا صفحہ ملاحظہ کریں۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654